



راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے کمنٹری پینل اور براڈکاسٹ پلان تیار

- رمیز راجہ، اطہر علی خان، شمیم چوہدری، ڈینی موريسن اور بازید خان پر مشتمل کمنٹری پینل
- ڈی آر ایس، ہاک آئی بال ٹریکنگ اور اسٹمپ کیمرہ کی سہولیت دستیاب
- ایک الٹرا ہائی اسپیڈ سمیت کل 23 کیمروں سے براڈکاسٹ کا پلان

لاہور، 5 فروری 2020ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے شائقین کرکٹ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کی اعلیٰ معیار کی کوریج فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل میچ، 7 فروری سے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں شروع ہوگا۔

اس حوالے سے پی سی بی نے کمنٹری پینل اور براڈ کاسٹ پلان کا اعلان کر دیا ہے۔ میچ کی براڈ کاسٹ کوریج ٹین اسپورٹس کے اشتراک سے ممکن ہوگی جو 23 مختلف ایچ ڈی کیمروں کی مدد سے مداحوں کو ٹی وی اسکرین سے جوڑے رکھے گی۔

براڈ کاسٹ پلان میں 2 سپر سلو اسپن ویژن کیمراز سمیت ایک الٹرا ہائی اسپیڈ کیمرہ بھی شامل ہے۔ میچ کے دوران اسٹمپ کیمراز اور ہاک آئی بال ٹریکنگ سمیت جدید پروڈکشن کا یہ نظام امپائرز کو ڈی آر ایس کے فیصلوں میں بھی معاونت فراہم کرے گا۔

دن کے آغاز سے قبل اور اختتام پر اسٹریٹ ڈرائیو شو کے ذریعے دن بھر کے کھیل پر تجزیہ کیا جائے گا۔

اس موقع پر سابق کرکٹر رمیز راجہ، بازید خان، اطہر علی خان، شمیم چوہدری اور ڈینی موريسن بطور کمنٹیٹر زمیچ کے دوران میدان میں ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر تبصرہ کریں گے۔

پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان شیڈول ٹیسٹ میچ کو دنیا بھر کے مداحوں تک پہنچانے

کے لیے انتہائی پیشہ ور اسٹاف بھی براڈ کاسٹ کریو میں شامل ہے۔ برصغیر میں موجود کرکٹ کے مداح www.sonyliv.com پر بھی میچ کی لائیو اسٹریم دیکھ سکتے ہیں۔

راولپنڈی میں شیڈول ٹیسٹ میچ، کیریبین میں ٹین کرکٹ، جنوبی افریقہ میں سپر اسپورٹس، آسٹریلیا میں فوکس، جنوب مشرقی ایشیا میں سونی اور انڈین برصغیر میں سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا پر براہ راست دیکھا جاسکتا ہے۔ شائقین کرکٹ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ، ملائیشیا میں آسٹرو، امریکہ میں ولوجبکہ پاکستان میں ٹین اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk

@therealpcb

@PakistanCricketBoard

@PakistanCricketOfficial

@therealpcb

PCB Headquarters

Gaddafi Stadium

Ferozpur Road, Lahore

Pakistan, PO Box 54000

T: +92 42 3571 7231-4

